

## شکر کی عادت ڈالیے

انسانی زندگی کے مراحل بہت بھی ہیں اور یہ مختلف و متفاہد بھی ہیں، غم و خوشی، سخت و بیماری، اداکی و تازگی، تنگی و فراغی، بچپن، لڑکپن، جوانی اور بڑھایا..... زندگی ان مختلف مراحل سے گزرتی ہے اور وقت مقررہ پر اپنا سفر ختم کر جاتی ہے، بلاشبہ زندگی کی تہخیاں، زندگی کی مسروتوں اور نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: ”وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا“..... اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو گے تو انہیں نہیں گن سکو گے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ”عد“ کے معنی افراد اور جزئیات گئنے کے آتے ہیں اور ”احصاء“ کا لفظ جنس اور نوع کی گفتگی کے لیے عموماً استعمال ہوتا ہے، آیت کریمہ میں پہلے ”تَعْدُوا“ اور پھر ”لَا تُحْصُوا“ کا کلمہ لا کراس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک ایک جزو یہ لگنا شروع کرو گے تو ان جزویات کا گناہ تودر کی بات ہے تم ان نعمتوں کی اجتناس و انواع بھی شمار نہیں کر سکتے ہو۔

انسان کا عدم سے وجود میں آن خود ایک نعمت ہے، پھر انسانی تخلیق میں جسم کے ایک ایک عضو اور ایک ایک جوڑ میں قدرت نے جو عجیب و غریب نظام دیجت رکھا ہے، اس میں غور کرتے ہوئے بے اختیار زبان پر فتحیارک اللہ احسن الحال قین کے قرآنی الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، انسانی جسم قدرت کے انعامات کا ایک حسین مظہر ہے، پھر اس جسم کی بقاء کے لیے اللہ جل شانہ نے زندگی کے گرد و پیش نعمتوں کے جو چن کھلا رکھے ہیں، ان کا تو کوئی حساب نہیں۔

یہ برق، یہ باران، یہ گھٹا..... یہ پھول، یہ کلیاں، یہ صبا..... یہ آگ، یہ پانی، یہ ہوا..... یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے..... یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ نظارے..... یہ سب زندگی کے ارد گرد قدرت کی عظیم نعمتیں ہیں اور قرآن کریم نے جگہ جگہ ان نعمتوں کو ذکر کر کے غافل انسان کی توجہ اپنے رب کے شرک کی طرف مبذول کرائی ہے لیکن انسان عموماً بہت ناشکرا ہوتا ہے، اللہ جل شانہ نے انسان کے ناشکرا ہونے کا کئی مقامات پر تذکرہ فرمایا اور ایک جگہ فرمایا کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔

یہ توهہ نعمتیں ہیں جو عام اور ہر ایک کو حاصل ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنی کچھ خاص نعمتوں سے بھی نوازتا ہوتا ہے، پھر کئی نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی طرف آدمی کا عام طور سے ذہن بھی نہیں جاتا، آپ گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا پچھا نہستا مسکراتا ہوا آپ کے پاس دوڑ کر آتا ہے، والدین کو اس سے جس قدر سکون اور خوشی ملتی ہے عموماً اس کے شکر کی طرف ذہن نہیں جاتا، گرم دوپہر میں بھلی غائب ہوا اور ہوا کا ٹھنڈا جھونکا جنم کو راحت دے جائے، انسان بھلی غائب ہونے کی شکایت کرتا ہے لیکن اس ٹھنڈے جھونکے کی راحت کو بکسر بھول جاتا ہے، دن میں کتنی مرتبہ پیاس کی شدت ٹھنڈے پانی کے پاس لے جاتی ہے، حضرت انسان گرمی اور پیاس کی شدت کو تبادلہ کرتا رہتا ہے لیکن اس گرمی میں ٹھنڈے پانی نے جو لطف دیا ہوتا ہے اس کا ذکر بہت کم آتا ہے، دن بھر مزدوری اور گھر کے کام کا ج میں مصروفیت بسا اوقات تھکاوٹ سے مٹھاں کر دیتی ہے، انسان کو اس تھکاوٹ و مشقت کی تلقی تو یاد رہتی ہے لیکن اس تھکاوٹ کے بعد رات کو بستر پر لیٹ کر پر سکون نیند و آرام کی لذت کو یاد نہیں کرتا، اگر ہم اپنی زندگی کی چاروں طرف برستی ہوئی اس طرح کی بے شمار نعمتوں میں غور کرنے کی عادت ڈال لیں تو محسوس ہو گا کہ یہاں وجود غم بھی درحقیقت احساس سرست کے لیے

ایک واقعہ یاد آیا، مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کی ایک صاحجزادی کو اپنے کئی دانت تکلیف اور درد کی وجہ سے نکلوانے پڑے، ایک مرتبہ وہ دانت نکلا کر اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ نے اس کا عال پوچھا تو اپنا حال بتاتے ہوئے ان کے منہ سے یہ بات نکل گئی کہ ”ابا جی ایہ دانتوں کا معاملہ بھی عجیب ہوتا ہے، یہ بچپن میں نکلتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں اور جب ٹوٹنے پر آتے ہیں تو اس وقت بھی تکلیف دیتے ہیں۔

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ”میں ای تصیس ان دانتوں کی لس یہ دوباتیں یاد رہیں کہ انہوں نے آتے وقت بھی تکلیف دی تھی اور

جاتے وقت بھی تکلیف دے رہے ہیں اور ان واقعات کے درمیان سالہ سال تم نے اس خدائی میں کو استعمال کر کے جو لذت و راحت حاصل کی، اس کی طرف کوئی دھیان نہیں۔“

دیے تو ناشکری کی دبامروں اور عورتوں دونوں میں عام ہے لیکن مردوں کی پہ نسبت عورتوں میں ناشکری زیادہ پائی جاتی ہے، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کے عذاب میں عورتوں کی کثرت کا ایک سبب ان کی ناشکری کی عادت کو بتایا ہے اور فرمایا کہ کسی عورت کے ساتھ زندگی بھرا چھائی کرتے رہو، پھر کسی دن تمہاری طرف سے کوئی ناخوٹگوار و اتحد پیش آجائے تو بے دھڑک کہہ دے گی ”آپ کی جانب سے تو میں نے کبھی کوئی بھلامی دیکھی ہی نہیں۔“ (مکہۃ شریف، جلد اول، صفحہ ۱۳۰)۔

ایک دوسری روایت حضرت امام ابراء ضی اللہ عنہما سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم عورتوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے، آپ نے ہمیں سلام کیا اور فرمایا احسان کرنے والے کی ناشکری سے بچے، ہم نے پوچھا ”کیسی ناشکری؟“ تو آپ نے فرمایا ”عورت ایک مدت دنک اپنے والدین کی آغوش میں زندگی گزارتی ہے، پھر اللہ جل شانہ اسے شوہر عطا فرمادیتے ہیں جس سے مال و دولت اور اولاد کی نعمت اسے میر آ جاتی ہے لیکن کسی دن وہ ناراض ہوتی ہے تو کہہ دیتی ہے اس گھر میں توجہ سے آئی ہوں، کبھی سکھ نصیب ہی نہیں ہوں۔“ (کنز العمال، جلد ۲۶، ص ۱۶۵)۔

شکر کیا ہے؟ مشہور عالم علامہ ابن منظور افریقی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب ”سان العرب“ میں لکھا ہے کہ شکر احسان پہچانے اور احسان پہلانا نے کا نام ہے، کسی کے احسان اور اچھائی کے عوض میں اس کی تعظیم و اکرام کرنے کو شکر کہا جاتا ہے، شکر گزار بندہ وہ کہلاتا ہے جو اللہ جل شانہ کی اطاعت پر استقامت اختیار کے اللہ کو راضی کرنے کی سعی کرے، بعض لوگوں سے ان کی طبیعت کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ”الحمد لله سب خیریت ہے، اللہ کا شکر ہے، خدا کا لا کھلا کھ شکر ہے.....“ اس طرح کے تمام جملے شکر کے زمرے میں آتے ہیں اور اس قسم کے الفاظ سے اپنی باتوں کو آباد اور اپنی زبان کو ترکھنا چاہیے۔

میر نعمتوں کو برقرار رکھنے کا واحد نیوں بھی شکر ہے، شکر ادا کرنے سے نہ صرف آدمی کے پاس موجود نعمتیں برقرار رہتی ہیں بلکہ ان میں ترقی اور اضافہ بھی ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کا ارشاد مبارک ہے ”اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا۔“ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار اور ان پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور کوئی وقت نہ ملے تو کم از کم سونے سے قبل تقریباً ہر آدمی کو سوچنے اور تہائی کے کچھ نہ کچھ لمحات مل ہی جاتے ہیں، ان میں اگر انسان زندگی کی نعمتوں کا تصور کر لیا کریں اور اپنی ناشکری اور کوتاہی پر ایک نظر ڈال لیا کریں تو انشاء اللہ اس فکر و تصور کی برکت سے اللہ تعالیٰ شکر کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔

قرآن کریم میں اللہ جل شانہ سے نعمتوں پر شکر کی توفیق مانگنے کی دعا و جگہ ذکر کی گئی ہے۔ ایک سورہ نعل آیت نمبر ۱۹ میں اور دوسری سورہ احباب آیت نمبر ۱۵ میں، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف الفاظ اور مختلف جملوں کے ساتھ اللہ جل شانہ سے شکر کی دعا طلب فرماتی ہے، ان میں سے چند دعاؤں کو ذکر کیا جاتا ہے۔

(۱) قرآنی دعا کے الفاظ یہ ہیں: رب اوزعنی آن اشکر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالحاً ترضه واصلح لي فی ذريتی، انى تبت اليك وانی من المسلمين۔ (۲) حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے: اللهم انى اسا لك شکر نعمتك وحسن عبادتك (سنن ترمذی ص ۷۸) ”اے اللہ! میں آپ سے آپ کی نعمتوں پر شکر اور اچھے طریقے سے آپ کی عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں۔“ (۳) اسی طرح آپ کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی: اللهم اجعلنی صبوراً، واجعلنی شکوراً۔ ”اے اللہ! مجھے بہت صبر کرنے والا اور نہایت شکر گزار بندہ بناوے۔“ (۴) ایک دعا ان الفاظ میں منقول ہے: رب اجلعنی لک شکارا لک ، ذکارا لک، رہا باللک، مطروا عالک، مطیعا لک، مختينا اليك اوها منيما۔ (متدرک حاکم، جلد اول، ص ۵۲۰) ”اے میرے رب مجھے شکر کرنے والا، ذکر کرنے والا، اپنے سے ڈرنے والا اور اپنا فرماں بردار بنادے۔“